



## سوال

(10) موزوں اور جرابوں پر مسح کی شرائط

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

موزوں اور جرابوں پر مسح کی شرائط

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

موزوں یا جرابوں وغیرہ پر مسح کرنا تب جائز ہے جب انھیں با وضو ہو کر پہنا ہو۔ صحیحین میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جب انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا: "بسنہ دیں کیونکہ میں نے انھیں وضو کی حالت میں پہنا تھا۔" [1]

ایک دوسری روایت میں ہے:

"أمرنا أن نمسح علی الخفين إذا نحن أودعناهما علی طرہ"

"آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو) حکم دیا کہ موزوں پر مسح تب کرنا جب انھیں وضو کر کے پہنا ہو۔" [2]

ان دلائل سے واضح ہوا کہ موزے یا جرابیں پہننے وقت وضو کا ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے وضو کیے بغیر موزے یا جرابیں پہن لیے تو ان پر مسح کرنا جائز نہ ہوگا۔

پہننے ہوئے موزے یا جرابیں مباح ہوں اگر کسی سے پھین کر یا چوری کر کے حاصل کیے ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے ریشم کے موزے یا جرابیں پہنے ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں کیونکہ حرام میں "رنخت" کا استعمال ناجائز ہے۔

مسح کی ایک شرط یہ ہے کہ موزے یا جرابیں پاؤں کے اس حصے کو مکمل طور پر ڈھانپتے ہوں جن کا دھونا بحکم الہی فرض ہے ورنہ مسح کرنا درست نہیں۔

جراہیں موزوں کے قائم مقام ہیں ان پر مسح کرنا تب جائز ہے جب وہ اون وغیرہ کی بنی ہوں اور اس قدر موٹی ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کی جلد نظر نہ آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا تھا۔" [3]

جرابوں پر مسح کرنے کی مدت بھی وہی ہے جو موزوں کی ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کے لیے ان پر جوتوں کا پہننا ضروری نہیں۔ اگر جرابوں پر مسح کر کے مدت مسح کی ابتدا ہو گئی پھر ان





[4] - مولف نے ان دو شرطوں کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔

[5] - صحیح البخاری الوضوء باب المسح علی الخفين حدیث 205 - و صحیح مسلم الطهارة باب المسح علی الناصیه والعمامة حدیث (81-83-) 274 - و سنن ابی داؤد الطهارة باب المسح علی العمامة حدیث 150 و باب المسح علی الخفين 146 - و سنن النسائی الطهارة باب المسح علی العمامة مع الناصیه حدیث 107-108 - و باب کیف المسح علی العمامة حدیث 109-150 -

[6] - سنن ابی داؤد الطهارة باب الحد و یتیم حدیث: 336 - و سنن ابن ماجہ الطهارة و سنن ابی داؤد الطهارة باب فی المجر و تصیة الجنابة فیخاف علی نفسه ان الغسل حدیث 572 قال الابانی رحمته اللہ علیہ حسن و دون انما کان یتخفیہ -  
حداماعندی والتداعلم بالصواب

## قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی احکام و مسائل

جلد 01 : صفحہ 53